

## حضرت اسماعیلؑ اور یہود

جناب محمد رضی اللہ عنہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو — توریت کی روایت کے مطابق — بڑھاپے کی عمر میں کئی اولادوں سے نوازا۔ لیکن جو شہرت دوام حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ کو حاصل ہوئی، وہ دوسروں کو حاصل نہ ہو سکی۔ دونوں کی نسلیں خوب پھیل چکیں۔ بعد میں حضرت عیسیٰؑ تک جتنے انبیاء مبعوث ہوئے وہ حضرت اسحاقؑ کی نسل سے تھے اور خاتم النبیین حضرت محمدؐ حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دونوں اولادوں کو متعدد فضائل و مناقب سے نوازا تھا۔ لیکن آیتہ امتدنی اسرائیل بنی اسماعیل کے تمام فضائل سے انکار کرنے لگے اور ان فضائل کو اپنے حق میں ثابت کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ہونا ان سے مستحب بھی نہ تھا۔ توریت شاہد ہے کہ متعدد مواقع پر انہوں نے ایسی زیادتیاں کی ہیں۔ دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کیا ہے، اپنے مخالفین کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں اور دوسروں کی فضیلتیں اپنی طرف منسوب کر لی ہیں۔ جب حضرت اسحاقؑ کے بڑے بیٹے عیسو پہنچے تو ان کی وجہ سے وراثت کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو دھوکے سے انہیں محروم کر کے ان کے چھوٹے بیٹے یعقوب کو وراثت اور برکت کا حقدار قرار دیتے ہیں۔ بنی موآب اور بنی عمون سے دشمنی کی وجہ سے انہیں ذلیل و روا کرنے کے لیے ایک بنی معصوم (حضرت یوسفؑ) کی سیرت طیبہ کو داغدار کر کے اس کی جانب یہ بات منسوب کر دیتے ہیں کہ اس کے اپنی دونوں بیٹیوں سے (نوذ باللہ) زنا کرنے کے نتیجے میں موآب و بنی عمون پیدا ہوئے جو ان دونوں قبیلوں کے جدا جدا ہیں۔ حضرت یعقوب اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دوسرے بیٹے انہیں قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انہیں اپنے حقیقی بھائی کی فضیلت

گوارہ نہیں تو وہ اپنے دور کے بھائیوں (یعنی بنی اسماعیل) کی فضیلت کا کیونکر اعتراف کر سکتے تھے؟

## حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ریت میں

توریت میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کتاب پیدائش میں ملتا ہے۔ لیکن اس طرح کہ جگہ جگہ ان کی طرف تحقیر و اہانت کے کلمات منسوب کیے گئے ہیں اور بعض فضائل سے انھیں محروم کر دیا گیا ہے مثلاً ان کی ماں (حضرت ہاجرہ) کو بارہا حضرت سارہ کی لونڈی کہا گیا ہے اور انھیں لونڈی کی اولاد بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے سارہ کے کہنے پر انھیں ان کی ماں کے ساتھ نکال دیا تھا پھر کوئی خبر نہیں لی۔ اسی طرح واضح طور پر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے مقابلے میں حضرت اسحاق کی شخصیت کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے مثلاً ذبیح اسحاق کو قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق ہی کی نسل کی کثرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت اسحاق کی زندگی کے حالات کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے جبکہ حضرت اسماعیل کے بچپن کے بعد کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ توریت ہی کی دوسری عبارتوں سے ان باتوں کی تردید ہوتی ہے اور ان کے بالکل برعکس مواد سامنے آتا ہے۔ پیش نظر مقالہ میں حضرت اسماعیل کے بارے میں یہود کے انھیں خیالات کا جائزہ لیا جائے گا اور توریت میں ان کے سلسلہ میں جو متضاد باتیں پائی جاتی ہیں ان کا تجزیہ اور تحلیل کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

## لونڈی کی اولاد

علمائے یہود کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی لونڈی تھیں۔ کتاب پیدائش باب ۱۶ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حضور بے اولاد ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا، آگے ہے:

”ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مہری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے۔ سو تو میری لونڈی کے پاس جا۔ شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔“

بالآخر حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر چھبائی برس تھی یہاں بار بار حضرت ہاجرہ کے لیے نونڈی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بائبل میں سولہ آیتیں ہیں۔ ان میں ہاجرہ کے لیے چھ مرتبہ نونڈی اور سارہ کے لیے تین مرتبہ بی بی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے ابواب میں بھی ہاجرہ کو نونڈی اور بی بی اسماعیل کو نونڈی کی اولاد کہا گیا ہے مثلاً دیکھئے کتاب پیدائش بائبل ۱۰ (دو مرتبہ) ۱۳، ۱۳، ۱۳ اور بائبل ۱۳، کتاب یسعیاہ بائبل ۱ میں بھی بی بی اسماعیل کو بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد کہا گیا ہے۔

اس بات کو یہود کی طرف سے اتنے زور شور سے پیش کیا گیا کہ غلامتے اسلام بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اسرائیلیات کے اثرات کی وجہ سے ان کے درمیان بھی یہ بات مانی جانے لگی کہ حضرت ہاجرہ نونڈی تھیں چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں سارہ، فرعون اور ہاجرہ کے واقعہ کو جن ابواب میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:

کتاب البیوع: باب متراہ المملوک من المحرقی وھبہ وعتقہ

(رحلی سے مملوک (نونڈی یا غلام) خریدنے اور اس کے بے کس کرنے اور آزاد کرنے کا بیان)

کتاب النکاح: باب اتخاذا النسوانی و ثواب من اعتق جارية تھتو جھا

(نونڈیاں رکھنے کا بیان اور نونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کے ثواب کا بیان)

حالانکہ خود توریث کی دوسری تصریحات سے اس بات کا غلط ہونا واضح ہوتا ہے:

۱۔ توریث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بعد کے زمانے میں

نونڈی کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح اس کی اولاد کو بھی میراث میں شریک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ صرف انہیں چیزوں کے مستحق سمجھے جاتے تھے جو ان کا باپ (یعنی ان کی ماں کا آقا) انہیں اپنی زندگی میں دے دے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے قطورہ کے لڑکوں کو اپنی زندگی ہی میں کچھ دے دیا کہ مشرق کی طرف بھیج دیا تھا۔

توریث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارہ نے حضرت ابراہیم کو ہاجرہ اور اسماعیل کو نکال

دینے پر اس لیے آمادہ کیا تھا کیوں کہ انہیں خوف تھا کہ کہیں اسماعیل اسحاق کے ساتھ میراث میں شریک نہ ہو جائیں:

”تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس نونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے

کیونکہ اس نونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا“۔

اگر حضرت باجرہ لونڈی تھیں تو اسماعیلؑ کے میراث میں شریک ہونے کا خوف کیوں تھا؟  
(۶) اگر ہم لفظ 'لونڈی' کو یہود کا اضافہ نہ مانیں تب بھی خود توریت کے استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ 'لونڈی' کا استعمال مجازاً بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہود میں رواج تھا کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس کے شوہر سے کچھ پیسے لے لیتا تھا۔ اس طریقہ کو بیٹی کے بیچنے سے تعبیر کرتے تھے۔ اس کے باوجود بیٹی لونڈی نہ بنتی تھی بلکہ اس کی حیثیت بیوی کی سی ہوتی تھی۔ کتاب خروج میں ہے:

”اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اسے خوش نہ ہو تو وہ اس کا ذبیہ منظور کرے۔ پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے، کیونکہ اس نے اس سے دغا بازی کی“ ۱۷

یہاں لونڈی سے مراد بیوی ہے۔ مجازاً اس کا اطلاق لونڈی پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی لونڈی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے:

”اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ایجیل کے پاس آئے تو انھوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تم تجھے اس سے بیابنے کو ملے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خاچوں کے پاؤں دھوئے“ ۱۸

اسی لیے بعض علمائے یہود نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ باجرہ لونڈی نہیں بلکہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں توریت کے مفسر رینی شلومو اسحاق نے کتاب پیدائش بائبل کی تفسیر میں لکھا ہے:  
”وہ فرعون کی بیٹی تھی۔ جب اس نے کرامات کو دیکھا جو بوجہ سارہ واقع ہوئی تھیں تو کہا کہ میری بیٹی کا اس کے گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے“ ۱۹

قصص یہود کا جو مجموعہ گنزبرگ (GINZBERG) نے چار جلدوں میں شائع کیا ہے اس میں ہے: ”بادشاہ مصر نے عہد کر لیا کہ وہ ابراہیم کو ہر طرح پر قوت و پرتوکت بنا کر رہے گا..... چنانچہ اپنی بیٹی تک ہدیہ دے دی۔ سارہ کی تعلیم و تربیت میں رہ کر وہ بھی ویسی ہی باخدا بن گئیں اور ہر طرح ابراہیم کی رفاقت کے قابل“ ۲۰

یہود نے حضرت باجرہ کے لیے سارہ کی لونڈی اور حضرت اسماعیل کے لیے لونڈی کی اولاد کے الفاظ محض ذلت و حقارت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ حالانکہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ خود ان کے محترم آباء و اجداد لونڈی کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی بیوی لیاہ کی لونڈی زلفہ سے حضرت یعقوب کے فرزند انجد اور آشر پیدا ہوئے اور ان کی بیوی راضیل کی لونڈی بلہ سے ان کے فرزند ان دان اور نفتالی پیدا ہوئے اور یہ چاروں فرزند اسرائیل کے ان بارہ گولیاں میں سے ہیں جنہیں یعقوب، موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ علیہم السلام نے وقتاً فوقتاً برکتیں دی ہیں۔  
توریت میں جو فضیلتیں حضرت اسحاق اور ان کی والدہ سارہ کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک وہی فضیلتیں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ باجرہ کے لیے بھی مذکور ہیں:

باجرہ	سارہ	
۱۱: ۱۶	۱۳: ۱۸	خدا نے در دو غم سنا
۱۴: ۲۱-۲۱: ۱۶	۱۰: ۱۸	قریش نے کثرت اولاد کی بشارت دی
۱۳: ۱۶	۱۵: ۱۸	قریش نے کام کیا
	۱۶: ۱۴	خدا نے برکت دی
اسماعیل	اسحاق	
۱۱: ۱۶	۱۹: ۱۷	خدا نے نام رکھا
۳۰: ۱۴	۱۹: ۱۴	خدا نے برکت دی
۲۰: ۲۱	۲۲: ۲۶	خدا ساتھ تھا
۱۶: ۲۵	۱۶: ۱۴	قوموں اور بادشاہوں کے باپ ہو گئے
۲۳: ۱۴	۳: ۲۱	غصہ ہوا
	۱۹: ۱۴	عبدالہی

کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حدیث میں بھی حضرت باجرہ کو لونڈی کہا گیا ہے۔ صحیحین میں باجرہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں:

اخدم و لیدۃ اخدم ہاجرۃ اخدمنی ہاجرۃ اعطوا ہاجرۃ اخدم خادما۔ یہ الفاظ لونڈی کے لیے خاص نہیں ہیں ولیدۃ کا اطلاق ہر لڑکی پر ہوتا ہے۔ اسی طرح خادم (خدمت گزار) کے لیے بھی غلام یا لونڈی ہونا ضروری نہیں اور اخدم (خدمت کے لیے بنا) بھی اس معنی میں مراد نہیں ہے کہ کبھی

خدمت کے لیے دیا جائے وہ غلام یا لونڈی ہو، اس لیے ان الفاظ سے یہ استنباط کرنا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں صحیح نہیں لگتا۔

## حضرت اسماعیلؑ کی مکہ میں آباد کاری

توریت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آباد کاری سے متعلق جو قصہ مذکور ہے وہ عجیب و غریب تضادات کا شکار ہے۔ توریت میں ہے کہ ”سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے اس نے اپنی مصری لونڈی (ہاجرہ) ابراہیم کے حوالے کی تاکہ اس کے ذریعے گھر آباد ہو۔ بالآخر ابراہام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا جن کا نام اس نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت ابراہیم چھبیس برس کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق کی بشارت سنائی اور اگلے سال حضرت سارہ سے اسحاق کی ولادت ہوئی۔ دو دھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے ایک بڑی ضیافت کی۔ اس میں سارہ نے یہ دیکھ کر کہ ہاجرہ کا بیٹا ٹھٹھے مارتا ہے، ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دے۔ اس کے بعد توریت کے الفاظ یہ ہیں:

”تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک نی اور اسے ہاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور میرے سب کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے پتے پر دوڑ جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سمھال، کیوں کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔“

مقدمہ الذکر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے چودہ سال بڑے تھے اور ان کے گھر سے نکالے جانے کا واقعہ حضرت اسحاق کی ولادت کے بعد پیش آیا۔

یعنی گھر سے نکلنے وقت حضرت اسماعیل کی عمر چودہ پندرہ سال تھی۔ جبکہ مؤخر الذکر آیات میں ”طے کے کو ایک جماڑی کے نیچے ڈال دیا“ ”جہاں لڑکا پڑا ہے“ اور ”اٹھ اور لڑکے کو اٹھا“ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل شیرخوار بچے تھے اور انھیں چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ تورت کے اس مرتبہ تعارض کی بنا پر علمائے اسلام میں سے بعض نے سر سے باجرہ اور اسماعیل کے گھر سے نکالے جانے اور بیابان میں رہنے والے واقعہ کا انکار کیا ہے اور بعض نے اس واقعہ کو ماتے ہوئے اسے اس وقت کا واقعہ قرار دیا ہے جب اسماعیل چودہ پندرہ سال کے تھے اور اس کے شیرخوارگی کے زمانے کا واقعہ ہونے کی تردید کی ہے۔

لیکن میرے نزدیک واقعات کی صحیح ترتیب یوں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل کو نماز ٹھوسیت ہمیں ان کی ماں باجرہ سمیت مکہ کے بیابان میں لایا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور مشیت سے ان کے رہنے کے اسباب و وسائل فراہم کر دیے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم کی ایک دوسری آزمائش کی اور خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے ہنر و صنعت پر بیٹے اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اسے وہی الہی کھجھر فوراً آواز لے لیں ہو گئے۔ آزمائش میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انھیں دوسرے بیٹے اسحاق کی بشارت دی۔

چونکہ یہود نے قربانی کا شرف اپنی نسل میں منتقل کرنے کے لیے تورت میں تخریب کر کے اسماعیل کے بجائے اسحاق کو ذبح قرار دیا، اس لیے انھیں اس جھوٹ کو سچ بنا کے لیے دوسری تخریبیں بھی کرنی پڑیں چنانچہ انھوں نے واقعات کی ترتیب بدل کر حضرت اسحاق کی پیدائش واقعہ ذبح سے پہلے قرار دی۔ حضرت سارہ کی جانب باجرہ اور اسماعیل کے تئیں نازیبا کلمات منسوب کیے اور سارہ کی بات مان کر حضرت ابراہیم کے انھیں گھر سے نکال دینے کا فسانہ گر دھا۔ لیکن اس کے باوجود مؤخر الذکر آیات (کتاب پیدائش باب ۱۲-۱۸) میں کچھ الفاظ ان کے دست تخریب سے بچ گئے۔ جن سے ان کی کذب بیانی اور دروغ گوئی واضح ہوتی ہے۔

### ذبح کون؟

علمائے یہود اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم کے جس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے

قربان کر دینے کا حکم دیا تھا وہ اسحاق ہیں نہ کہ اسماعیل۔ اس معاملہ میں ان میں اس حد تک اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ آج تک کسی ایک شخص کی طرف سے بھی اس کے برعکس دوسری رائے سامنے نہیں آئی یہی نہیں بلکہ اس رائے کو ان کی طرف سے اس زور شور سے پیش کیا گیا کہ بعض صحابہ و تابعین اور علمائے سلف نے بھی اسے قبول کر لیا اور حضرت اسحاق کو ذبیح قرار دے دیا۔ وہ یہود کی اس سازش اور علمی بددیانتی کو نہ سمجھ سکے جو ان کی فطرت ثانیہ میں داخل تھی۔ حالانکہ خود تورات کی متعدد عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اسحاق ہو ہی نہیں سکتے۔ صرف اور صرف اسماعیل ہی پر ذبیح کی صفت صادق آتی ہے تورات میں واقعہ ذبح یوں بیان کیا گیا ہے:

”خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اسے کہا: اے ابراہام اس نے کہا: میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے۔ اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔“

ان آیتوں میں ذبیحی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں اور دونوں حضرت اسحاق پر منطبق نہیں ہوتیں بلکہ صریح طور پر حضرت اسماعیل سے متعلق ہیں۔

۱۔ ’جو تیرا اکلوتا ہے‘ خود تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر چھبیس سال کی تھی۔ اس کے چودہ سال بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اکلوتے اسماعیل تھے نہ کہ اسحاق۔

۲۔ ’جسے تو پیار کرتا ہے‘ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سارہ سے ایک بیٹا ہونے کی بشارت دی تو تورات کی روایت کے مطابق ابراہیم نے فرمایا: ”کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے“ اس سے حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم کی محبت عیاں ہوتی ہے۔

محض یہ دو صفتیں ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہود نے محض اندھی عصبيت اور نسلی دشمنی میں کتاب الہی میں تحریف کی اور اسماعیل کی جگہ اسحاق کے نام کو رکھ کر ذبیح کا شرف اپنی نسل میں منتقل کرنے کی ناکام کوشش کی۔

اس سلسلہ میں قرآن نے اگرچہ صراحت سے کام نہیں لیا۔ لیکن اس میں بھی ایسے واضح اشارات ملتے ہیں جن سے حضرت اسماعیل کا ذبیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگرچہ کوئی صحیح حدیث مروی نہیں لیکن جو روایات ملتی ہیں وہ سبھی حضرت اسماعیل کو ذبیح قرار دیتی ہیں۔



اس موضوع پر مولانا حمید الدین فراہی نے ایک وسیع رسالہ 'السرائی الصحیح فیمن هو الذبیح' پر دقلم فرمایا ہے۔ جس میں حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کے سلسلہ میں توریت اور قرآن سے تیرہ دلیلیں دی ہیں اور روایات اور اشعار جاہلیت سے بھی اسے ثابت کیا ہے۔ انجیل نیا بائبل میں تو صراحت سے مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کی قربانی کرنی چاہی تھی وہ ان کے اکلوتے بیٹے اسماعیل تھے۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”فرشتے جبرئیل نے جواب دیا۔ اٹھ یسوع اور ابراہام کو یاد کر۔ جو خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو خدا کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گیا تھا اور جب چھری اس کے بیٹے کو نہ کاٹ سکی تو اس نے میرے کہنے پر ایک بھیڑ کی قربانی دی۔ اسی طرح اے یسوع خدا کے بندے، تو بھی کر۔“

”اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جتنا درست تھا اس سے ذرا زیادہ چاہا جس پر خدا نے ابراہام کے دل سے یہ غلط محبت ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔“

حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو یہودی علماء تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ذبح اسحاق ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے صراحت سے ان کی تردید کی اور ان کی کذب بیانی واضح کی ایک مرتبہ کاتبوں:

فقہیہوں، فریسیوں اور سردار کاہن کی مجلس میں فرمایا:

”....خدا نے زندہ کی قسم ابراہام کو خدا سے ایسی زیادہ محبت تھی کہ اس نے نہ صرف جھوٹے بت پائش کر دیئے اور اپنے باپ اور ماں کو بھی چھوڑ دیا بلکہ خدا کی فرماں برداری میں اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔“

سردار کاہن نے جواب دیا: یہی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ سو ہمیں بتا ابراہام کا یہ بیٹا کون سا تھا؟

یسوع نے جواب دیا: خدا یا تیری حرمت کی غیرت مجھے اکساتی ہے اور میں چپ نہیں رہ سکتا میں سچ کہتا ہوں ابراہام کا یہ بیٹا اسماعیل تھا جس کی نسل سے مسیح آنے کو ہے جس کا ابراہام سے وعدہ تھا کہ اسی میں زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔

تب یہ سن کر سردار کاہن غضبناک ہو گیا اور چیخ اٹھا: آؤ اس بد عقیدہ شخص

کو سنگسار کر دیں، یہ تو کوئی اسماعیلی ہے۔ اس نے موسیٰ اور خدا کی شریعت کے خلاف کفر کیا ہے۔

ایک مرتبہ شاگردوں کے اسی قسم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:-  
 ”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم فرشتے جبرئیل کے الفاظ پر غور کرو تو تم ہمارے فقیہوں اور عالموں کا بغض جان لو گے کیونکہ فرشتے نے کہا۔ ابراہام ساری دنیا جان لے گی کہ خدا تجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے پر دنیا یہ کیونکر جانے کہ تجھے خدا سے کتنی محبت ہے؟ یقیناً یہ ضروری ہے کہ تو خدا کی محبت کے لیے کچھ کراہام نے جواب دیا، دیکھو خدا کا بندہ جو کچھ خدا کی مرضی ہو کرنے کو تیار ہے۔“

تب خدا نے ابراہام سے فرمایا: اپنا بیٹا اپنا پہلوٹھا اسماعیل لے اور پہاڑ پر آ کر اس کی قربانی دے سو اصحاق پہلوٹھا کیونکر ہوا کہ جب اصحاق پیدا ہوا تو اسماعیل سات سال کا تھا؟

## بشارتیں

توریت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں جا بجا متعدد بشارتیں مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نسل کی کثرت اور برکت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابراہیم کی وہ نسل مراد ہے جو ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے ذریعے پہلی پھولی توریت کی مختلف کتابوں میں اس قسم کی بیسار عبارتیں ملتی ہیں۔ ان میں کچھ درج ذیل ہیں:

”اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اصحاق کو برکت بخشی“

”تو اپنے بندے ابراہام اور اصحاق اور یعقوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں گے۔“

”یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ..... میں نے تمہارے باپ ابراہام کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان

کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے  
اصحاق عنایت کیا“ ۱۷

”اپنے باپ ابراہم پر اور سارہ پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب  
میں نے اسے بلایا، وہ اکیلا تھا۔ پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو  
کثرت بخشی“ ۱۸

اس طرح یہود نے دانتہ طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف  
حضرت اسحاق کی نسل کو برکت دی اور اس سے متعلق اس نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے  
کیے۔ حضرت اسماعیل کی نسل کی برکت اور وعدوں کی تکمیل کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ حالانکہ خود  
کتاب پیدائش میں بہت سی بشارتیں اور کثرتِ ذریت کے وعدے حضرت اسماعیل کی نسل  
سے متعلق ملتے ہیں۔

حضرت ابراہیم کے اپنے وطن اور ناطے داروں کے درمیان سے ہجرت کرنے کے بعد  
(حضرت اسماعیل کی ولادت سے پیشتر) دو مرتبہ بڑی قوم بنائے جانے، برکت دیے جانے اور  
نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بنانے اور ملک دیے جانے کی بشارت سنانی گئی (پیدائش  
باب ۱-۳، باب ۱۴-۱۶) یہاں اس کا مصداق حضرت ابراہیم کی پوری نسل (حضرت  
اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں) ہو سکتی ہے البتہ اس کے اولین مستحق بڑے ہونے کی  
وجہ سے حضرت اسماعیل ہوں گے۔

حضرت اسحاق کی نسل کے بارے میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی بشارت صرف ایک  
مرتبہ صراحت سے ملتی ہے:

”اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری  
نہ پکاؤ۔ اس کا نام سارہ ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے  
ایک بیٹا جنموں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے  
ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے..... بیشک تیری بیوی  
سارہ کے تجھے سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اصحاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر  
اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا“ ۱۹  
اس کے علاوہ جتنی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ان کی نسل کی کثرت کا وعدہ  
۲۰

کیا ہے وہاں یا تو صراحت سے حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے یا ان کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے:

”پھر ابرام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی“ ۳۱

”اور خداوند کے فرشتے نے اس سے (یعنی باجرہ سے) کہا کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا“ ۳۲

”جب ابرام تاناف سے برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں تو میرے حضور چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تب ابرام سرنگوں ہوا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابرہام ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت برو مند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولادوں سے برپا ہوں گے“ ۳۳

”اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا“ ۳۴

”اور اس کو نڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے“ ۳۵

”اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے باجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اسے باجرہ مجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں رُک کا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور رُک کے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیوں کہ میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا“ ۳۶

”خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریاغ دکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کروں گا“ اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھانک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی“ ۲۴

مقصود حضرت اسحاق علیہ السلام کی فضیلتوں کا انکار نہیں بلکہ محض یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی نسل کی کثرت اور برکت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں سے تھا نہ کہ صرف اسحاق سے۔

## عہدِ ابراہیمی

توریت میں حضرت اسماعیل کے ختنہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ اس عہد کا نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور آپ کی نسل سے کیا تھا:

”تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدانے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا..... میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی ہو گا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدار ہوں اور میں تجھے کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنگان کا تام ملک جس میں تو پر دیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا“ پھر خدانے ابرام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے ماننے اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے یہاں پشت در پشت ہر ایک کے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے۔ خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زرخیز

کا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی ہوگا اور وہ فرزند زریہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔

یہود کہتے ہیں کہ عہد الہی کے مستحق اصلاً حضرت اسحاق ہیں۔ اس لیے کہ انہیں کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کا ملک عنایت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ختنہ کی سنت کو مضبوطی سے اختیار کیا۔ لیکن توریت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم الہی کے بعد ہی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور سب خانہ زادوں اور زر خریدوں کو لیا اور خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تیرہ سال تھی۔ معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل عہد کا حکم نازل ہونے کے بعد ابتدا ہی میں حضرت اسحاق سے ایک سال قبل عہد الہی کے مستحق ہو گئے۔

انجیل برنابا اس میں صراحت ہے کہ عہد الہی اسماعیل کی نسل میں کیا گیا تھا نہ کہ اسحاق کی نسل میں شاگردوں کی ایک مجلس میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا:

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہر نبی جب آیا ہے خدا کی رحمت کا نشان صرف ایک قوم کے لیے لایا ہے اور اسی لیے اس کا کلام نہ پھیلا، سولے ان لوگوں تک جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ پر خدا کا رسول جب وہ آئے گا تو خدا اسے گویا اپنے ہاتھ کی مہر عطا کرے گا۔ وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے جو اس کا دین قبول کریں گی نجات اور رحمت لائے گا۔ وہ بے دینوں پر طاقت کے ساتھ آئے گا اور بت پرستی مٹا دے گا یہاں تک کہ وہ شیطان کو مبہوت کر دے گا۔ کیونکہ خدا نے ابراہام سے یہی وعدہ کیا تھا کہ دیکھ تیری نسل میں میں زمین کے تمام قبیلوں کو برکت دوں گا اور جس طرح اے ابراہام تو نے بت پاش پاش کیے اسی طرح تیری نسل بھی کریگی۔ یعقوب نے جواب میں کہا اے استاد ہمیں بتا کہ یہ وعدہ کس میں کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہودی کہتے ہیں اسحاق میں اور اسماعیلی کہتے ہیں اسماعیل میں..... یسوع نے کہا..... یقین کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وعدہ اسماعیل میں تھا نہ کہ اسحاق میں۔“

اس پر شاگردوں نے کہا۔ اے استاد موسیٰ کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ یہ وعدہ اضحٰق میں کیا گیا تھا۔

یسوع نے کراہ کر جواب دیا: ایسا ہی لکھا ہے مگر موسیٰ نے نہیں لکھا۔ نہ یثور نے لکھا، بلکہ ہمارے ربوں نے، جو خدا سے نہیں ڈرتے۔<sup>۳۷</sup>

### حضرت اسماعیل کا مکہ اور خانہ کعبہ سے تعلق

توریت سے حضرت اسماعیل کے بچپن کے بعد کی زندگی پر کچھ روشنی نہیں پڑتی۔ اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ: ”خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیرا ناز بنا“ اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا<sup>۳۸</sup> اور یہود کہتے ہیں کہ بیابان سے مراد فلسطین سے متصل علاقہ ہے۔

حضرت اسماعیل کے مکہ سے تعلق کی بابت توریت خاموش ہے اور اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق بھی کچھ معلوم نہیں دیتا۔ اسی بنا پر کچھ محدثین لوگوں نے کہ اور خانہ کعبہ سے حضرت اسماعیل کے تعلق کا قطعی انکار کیا ہے۔ لیکن وہیں کچھ ایسے واضح اشارات ملتے ہیں جن سے حضرت اسماعیل کا مکہ اور خانہ کعبہ سے تعلق آشکارا ہوتا ہے۔

۱۔ توریت سے ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹے تھے۔ بنیایوت، قیدار، اوٹیل، مہام، مشام، دومہ، مس، حد، میما، یطور، نفیس، قدمہ<sup>۳۹</sup>۔ توریت یہ بھی کہتی ہے کہ ”انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں اور یہی بارہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے“

تاریخ میں جزیرۃ العرب کے کئی مقامات کے نام حضرت اسماعیل کے ان فرزندوں کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کے فرزندوں کی بستیاں تھیں۔ یثور سے مقل آبادی کا نام بنیت ہے جو بنیایوت سے ملتا جلتا ہے۔ اس سے قریب ایک علاقہ کا نام الحضر ہے جو قیدار کی بگڑی شکل معلوم ہوتا ہے۔ مسام نجد میں ہے جو شمال سے منسوب ہے۔ شام اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور شہر دومہ الجندل ہے جو دومہ سے منسوب ہے۔ یمن کے ایک شہر کا نام موسے ہے جو مس سے ملتا جلتا ہے۔ جنوبی عرب میں ایک علاقہ حدیدہ ہے جہاں ایک مشہور قبیلہ بنو حد درہتا ہے جو بظاہر حد کی نسل سے ہے خیبر کی راہ پر ذک سے قریب

تینا ہے جو غالباً تیرہ سے منسوب ہے۔ یمن میں ایک شہر قیدہ ماہ ہے۔ جہاں ایک قبیلہ بنو قدمان رہتا ہے۔ شاید یہ قدمہ کی نسل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل جزیرۃ العرب ہی کے کسی مقام پر رہے اور وہیں ان کی نسل آباد ہوئی۔<sup>۱۷</sup>

۲۔ کتاب یسعیاہ میں ہے:

”اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور عقیقہ کی سانڈیاں آکر تیرے گرد بے شمار ہوں گی۔ وہ سب سب سے آئیں گے اور سونا اور کبان لائیں گے اور خدا کی حمد کا اعلان کریں گے۔ قیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی۔ بنا لوت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے۔ اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا“۔<sup>۱۸</sup>

مدیان اور عقیقہ بنو قطورہ اور قیدار اور بنا لوت بنو اسماعیل ہیں۔ اوپر معلوم ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے اور جزیرۃ العرب میں رہتے تھے۔ ان کا اپنے ساتھ اونٹ، بھیڑ مینڈھے اور قربانی کے جانور لانا۔ ایک مذبح پر جمع ہونا اور خدا کی حمد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اس مقام کو ”اپنی شوکت کا گھر“ قرار دینا واضح نشانیاں ہیں کہ یہ مقام خانہ کعبہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اپنی شوکت کا گھر ”بیت اللہ الحرام“ کا ہم معنی ہے۔ تاریخ ما قبل اسلام میں خانہ کعبہ اسی حیثیت سے مشہور تھا۔ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کے ساتھ حج کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے اور وہاں خدا کی حمد کرتے تھے۔<sup>۱۹</sup>

### کچھ اہم حقائق

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تورات میں جو دوسرے بیانات ہیں ان سے کچھ ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جن پر یہود نے دانت پر دہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ذیل میں ہم ان پر کچھ روشنی ڈالیں گے:

۱۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں مذکور ہے:

”وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا“۔<sup>۲۰</sup>

اسی طرح ان کی اولاد کا مسکن یہ بتلایا گیا ہے:

”اور اس کی اولاد جو یلدا سے اشورتک جو مصر کے سامنے اس راستے پر ہے



جس سے اسو کو جاتے ہیں آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے  
بے ہونے تھے۔ ﷺ

”سب بھائیوں کے سامنے بے رہے“ کی تشریح مولانا فراہی نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ  
نے حضرت اسماعیلؑ کے مسکن کو تمام ذریت ابراہیم کا قبلا قرار دیا تھا۔ اس کے اثبات میں فرمائی ہیں:  
”سب بھائیوں کے سامنے بیٹے کی جو تاویل ہم نے کی ہے اس کے سوا اس  
کی کوئی دوسری صحیح تاویل ممکن نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی تمام  
اولاد باسوا بنی اسماعیل کے مشرق و شمال میں آباد ہوئی ہیں حضرت اسماعیل  
ان سب کے سامنے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ ان کی بیٹی  
ان سب کے قبلا کی سمت تھی اور اس کو مان لینا بہت اقریب ہے کیونکہ حضرت  
ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے سب کا امام بنایا تھا اور ان کے بعد اس امامت کے  
وارث حضرت اسماعیل ہوئے۔ ﷺ

توریت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو اپنی بڑی قربانیوں کا رخ جنوب کی سمت  
کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ ان کے لیے قدس الاقداس نامی قربانی کے لیے جنوب کی  
سمت رخ کرنا ضروری تھا۔ سالانہ قربانی جو سب سے بڑی قربانی تصور کی جاتی تھی، اس کا رخ  
بھی جنوب کی طرف ہوتا تھا۔ خیمہ میں مسکن مقدس بھی جنوب کی سمت تھا۔ کتاب خروج میں  
ہے: ”مسکن کا رخ جنوب کی جانب برکت حاصل کرنے کے لیے بتایا جائے“ ﷺ۔ قربانیوں  
کا رخ جنوب کی جانب ہونے کی حکمت توریت سے کچھ نہیں معلوم ہوتی۔ یا تو یہود جانتے ہی نہ تھے  
یا انھوں نے دانستہ سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا فراہی نے اس کی انتہائی معقول  
حکمت بیان کی ہے:

”ہمارے نزدیک ان تمام ترتیب کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص خداوند  
کے حضور آئے اس کا رخ جانب جنوب یعنی مکہ معظمہ اور ابراہیمی قربان گاہ  
کی طرف ہو۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ خیمہ کے اندر مسکن  
مقدس بھی جنوب کی سمت میں تھا اور مذبح اس کے سامنے دروازے کی  
طرف تھا اس لیے جو شخص وہ قربانی پیش کرتا جس کو قدس الاقداس کہتے ہیں  
وہ مذبح کے شمالی جانب کھڑا ہوتا تاکہ اس کا رخ مسکن ربانی کی طرف ہوتے

جس کے معنی یہ تھے کہ اس کا رخ لازماً خانہ کعبہ کی طرف ہوتا جس کے پاس مردہ ہے جس کو اولین قربان گاہ ہونے کی عزت حاصل ہے اور جس کے پاس ہی مسکن اسماعیل بھی ہے۔“ ۵۵

۲۔ حضرت ابراہیم کی وفات اور تدفین کے سلسلہ میں تورات میں ہے:

”ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا ایک سو پچھتر برس کی ہوئی تب ابراہام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسمحاق اور اسماعیل نے مکفید کے غار میں جو ممرے کے سامنے تھی صحر کے بیٹے عفرون کے کھیت میں ہے، اسے دفن کیا۔“ ۵۶

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آجایا کرتے تھے اور وفات سے قبل بھی ان کے پاس موجود تھے۔ اس سے یہود کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے کہنے پر انھیں ان کی ماں کے ساتھ نکال دینے کے بعد ان سے کوئی ربط نہ رکھا۔

### حضرت اسماعیلؑ قرآن میں

قرآن کریم میں حضرت اسماعیل کے متعدد اوصاف اور فضائل بیان کیے گئے ہیں:

۱۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت بخشی (الانعام-۸۷)

۲۔ وہ وعدے کے سچے اور رسول اور نبی تھے (مریم-۵۲)

۳۔ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک

ایک پسندیدہ انسان تھے (مریم-۵۵)

۴۔ صبر کرنے والے تھے (الانبیاء-۸۵)

۵۔ صالحین میں سے تھے (الانبیاء-۸۶)

۶۔ نیک لوگوں میں سے تھے (ص-۴۸)

اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے دو واقعات کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا ہے یہ وہ واقعات ہیں جن سے یہود نے تجاہل برتنے

کی کوشش کی ہے۔

۱۔ سورہ معافات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت

دعا کی تھی:

”مے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو (اس دعا کے جواب میں) ہم نے اس کو ایک صالح (بردار) لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو (ایک روز) ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب تو بتا یہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے۔ آپ انشاء اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندادی کہ اسے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم غیبی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی“ (المعافات: ۱۰۰-۱۰۹)

ان آیات میں واقعہ ذبح بیان کیا گیا ہے۔ ان میں اگرچہ ذبح کا نام مذکور نہیں لیکن اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ حضرت اسماعیل ہی پر صادق آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کے مناسے جب اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے تمہیل حکم کا وعدہ کیا اور اپنے صحابہ ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ اور ان کی یہی صفات سورہ مریم (وعدہ کو سچ کر دکھانے والا) اور سورہ انبیاء (مہر کرنے والا) میں بیان کی گئیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد دہلیں ان آیات میں ایسی موجود ہیں جن کی بنا پر حضرت اسماعیل ذبح قرار پاتے ہیں۔

۲۔ دوسرا واقعہ حضرت اسماعیل کے خاندان کے متعلق کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو آباد کیا اور بارگاہ ایزدی میں یہ دعا فرمائی:

”پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصہ کو تیرے محترم گھر کے پاس لا رہا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں تازہ فاعلم کریں۔ لہذا ان لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھیل دے شاید کہ یہ سٹھ کر گوارا بنیں۔ (ابراہیم - ۳۷)

پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل

دونوں کو خانہ خدا کی بنیادیں اٹھانے اور پاک رکھنے کا حکم دیا:  
 ”اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور  
 اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو“ (البقرہ- ۱۲۵)  
 چنانچہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور اس کے شرف  
 قبولیت کے لیے بارگاہ ایزدی میں دعا کی:

”اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو  
 دعا کرتے جاتے تھے۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمائے تو  
 سب کی سنتے والا سب کچھ جانتے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا  
 مسلم (مطیع و فرماں بردار) بنا۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری  
 مسلم ہو ہیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر  
 فرما۔ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمائے والا ہے اور اے رب ان لوگوں  
 میں خود انھیں کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انھیں تیری آیات سنائے  
 ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے تو بڑا  
 مقتدر اور حکیم ہے“ (البقرہ: ۱۲۴-۱۲۸)

ان آیات سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا موسس خانہ کعبہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔  
 حضرت ابراہیم نے بچپن ہی میں انھیں اللہ کے حکم سے بیابان میں لاکر آباد کیا۔ وہ وہیں اللہ کی  
 رحمت و عنایات میں پلے بڑھے یہاں تک کہ جب بڑے ہوئے تو اللہ نے انھیں خانہ خدا کی  
 بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا۔ خانہ خدا کی تعمیر کے دوران دونوں کی زبانوں پر جو دعائیہ کلمات جاری  
 تھے ان میں سے ایک اہم دعائیہ کلمہ تھا کہ ان کی نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مطیع و فرماں بردار  
 ہو اور انھیں لوگوں میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انھیں تیری آیات سنائے۔ کتاب و  
 حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کا تذکرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف  
 قبولیت سے نوازا اور تقریباً ڈھائی ہزار سال کے بعد ان کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

## حواشی

سلسلہ واقعہ کی تفصیل کے لیے دیکھئے کتاب پیدائش باب ۱۰ سلسلہ ایضاً باب ۲۰-۲۸ سلسلہ کتاب پیدائش باب ۲۰-۲۱ سلسلہ ایضاً باب ۱-۶ سلسلہ باب ۱۰ سلسلہ کتاب خروج باب ۸-۷ سلسلہ کتاب یوسف علی باب ۲۰-۲۱۔ سلسلہ رمز للعالمین تاحی محمد سلیمان منصور پوری، قافہ عام سٹیج پریس لاہور سلسلہ جلد دوم ص ۳۳ خاص مای موضوع پر مولانا غنایت رسول چراکوٹی نے ایک رسالہ انصوں المبارک فی حرۃ اجرہ کے نام سے رقم رقم لکھا تھا جو نواب اعظم بزرگ مولانا محمد چراغ علی کے رسالہ انصوں النابھہ فی حرۃ اجرہ کے ساتھ حضرت اجرہ نامی کتاب کی صورت میں دربار اسلام پریس اترسہ سے ۱۹۸۰ء میں شائع ہوا تھا، اس رسالہ میں مولانا چراکوٹی نے حضرت اجرہ کے آزاد ہونے کے اثبات میں خود تورات سے متعدد دلیلیں دی ہیں بعد کے تمام نوکوشاں موضوع پر انھیں سے استفادہ کیا ہے۔ سلسلہ قصص یوسف جلد اول ص ۲۱۵، ۲۱۶ بحوالہ تفسیر جامعہ تاج کینی پاکستان ص ۵۵

سلسلہ دیکھئے رمز للعالمین دوم ص ۳۰ تورات کے حوالے کے لیے دیکھئے کتاب پیدائش باب ۳-۱۳

سلسلہ کتاب پیدائش باب ۱۵ سلسلہ کتاب پیدائش باب ۸-۱۰ سلسلہ ایضاً باب ۱۳-۱۸

سلسلہ تفصیل کے لیے دیکھئے رقم لکھنؤ ناسک ج کی تاریخ "شائع شدہ ماہنامہ حیات نو اعظم گڑھ جن جولائی ۱۹۵۰ء

سلسلہ پیدائش باب ۲۰ سلسلہ حضرت اسماعیل کو ذبح قرار دینے والوں میں محمد اکرام سے حضرت عمر حضرت علی

حضرت ابن مسعود حضرت عباس، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور تابعین وغیرہ میں سے قتادہ، عکرمہ

حسن امیری، سعید بن جبیر، جابر بن عبد اللہ، مسروق کھول، زہری، عطاء معقانی، سنن، کعب احبار، زید بن اسلم کے

نام ملتے ہیں۔ البتہ روایتوں میں ان میں سے بعض کی طرف وہ نوروں قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ تفصیل کے لیے

دیکھئے تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر سورہ صافات، ابن کثیر نے ان اقوال کا جائزہ لیتے ہوئے بدلائل ثابت

کیا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل میں متاخرین میں مولانا فزای (زمانہ ذبح کون؟) اور مولانا مودودی (تفہیم

القرآن سورہ صافات) نے بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا ثابت کیا ہے۔

سلسلہ انجیل برنابا کی صداقت سے اگرچہ عیسائیوں کو انکار رہا ہے، لیکن اس میں متعدد داخلی شہادتیں

ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مردودہ انجیلوں سے زیادہ سچائی ہے، غیر سرکاری ہونے کی وجہ

سے اس میں تحریف نہیں ہو سکی ہے اور اس کا لکھنے والا حضرت عیسیٰ کا حواری معلوم ہوتا ہے۔ انجیل برنابا

کے بارے میں تفصیلی بحث کے لیے دیکھئے انجیل برنابا (حوالیہ لائسنس) شائع شدہ دارالاسلام کویٹہ پرنسپل ہذا

مصری اور مترجم خلیل سادہ کے مقدمے، تفہیم القرآن مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی جلد ۱۴م تفسیر سورہ صافات اور

انجیل برنابا (اردو) میں مترجم آی ضیائی کا مقدمہ۔

- ۵۱۸ انجیل برناباس (اردو) آسی ضیائی - مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۲۴-۳۸
- ۵۱۹ ایضاً ۱۴۵-۱۴۶ ۵۲۰ ایضاً ۲۶۹ ۵۲۱ ایضاً ۸۰
- ۵۲۲ پیدائش باب ۱۱ ۵۲۳ کتاب خروج باب ۱۲
- ۵۲۴ کتاب یثوع باب ۲-۳ ۵۲۵ کتاب یسعیاہ باب ۲ ۵۲۶ پیدائش باب ۱۵-۱۹
- ۵۲۷ حضرت اسحاق کی نسل کی کثرت کا وعدہ کتاب پیدائش میں دوسری جگہوں پر بھی ہے مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت اسحاق کو مخاطب کیا ہے دیکھئے پیدائش باب ۱-۱۲ اور باب ۱۳-۱۵
- ۵۲۸ پیدائش باب ۳-۵ ۵۲۹ ایضاً باب ۱۰
- ۵۳۰ ایضاً باب ۱-۶ ۵۳۱ ایضاً باب ۲۰
- ۵۳۲ ایضاً باب ۱۳ ۵۳۳ ایضاً باب ۱۷-۱۸
- ۵۳۴ ایضاً باب ۱۶-۱۸ ۵۳۵ ایضاً باب ۷-۱۲
- ۵۳۶ انجیل برناباس (اردو) ص ۸۰-۸۱ ۵۳۷ پیدائش باب ۲۰-۲۱
- ۵۳۸ رحمۃ للعالمین دوم ص ۵۲-۵۳، سرسید احمد خاں نے اس دلیل کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور انگریز جغرافیہ دانوں کے حوالے سے اس کا اثبات کیا ہے۔ دیکھئے الخطبات الاحمدیہ فی العرب والسیرۃ الحمیدیہ طبع نوکلشور سیٹم پریس لاہور ص ۲۹۵-۲۹۸
- ۵۳۹ کتاب یسعیاہ باب ۶-۷ ۵۴۰ تفصیل کے لیے دیکھئے رحمۃ للعالمین دوم ص ۷۸
- ۵۴۱ پیدائش باب ۱۲ ۵۴۲ ایضاً باب ۱۸
- ۵۴۳ ذبح کون؟ مولانا حمید الدین فراہی اردو ترجمہ مولانا امین احسن اسلامی دائرہ حمیدیہ سرائے میر اعظم گڑھ ص ۷۶ - ۵۴۴ کتاب خروج باب ۹
- ۵۴۵ ذبح کون ص ۷۴ ۵۴۶ پیدائش باب ۲۵ ، ۷-۸
- ۵۴۷ مولانا فراہی نے قرآن سے تیرہ دلیلیں دی ہیں تفصیل کے لیے دیکھئے ذبح کون؟